



مجلس البحث والدراسات
معدن فتوى
ISLAMIC RESEARCH COUNCIL

سوال

(696) قربانی کرتے وقت قربانی کرنے والے کا نام لینا

جواب



السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ

قربانی کا جانور بکرا، گائے، اونٹ کو ذبح کرتے وقت دعا سے پہلے جن کی طرف سے قربانی دی جا رہی ہو ان سب کے نام لینا چاہیے یا نہیں۔؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

و علیکم السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ!
الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت، جن کی طرف سے قربانی دی جا رہی ہو ان سب کے نام لینا مسنون عمل ہے۔ نبی کریم ﷺ ہمارے لیے کر ہی ذبح کیا کرتے تھے، جیسا کہ درج ذیل دعاؤں سے ثابت ہوتا ہے۔

سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی میں دو مینڈھے ذبح کئے جو سینگوں والے، نحسی اور چنکبرے تھے، جب آپ نے انہیں قبلہ رخ لٹایا تو یہ دعا پڑھی:

«أَبِي وَجْهَتْ وَبِحِي لَذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلَى نِيَابِزِهِمْ تَعِيْفًا وَأَنَا مِنَ الْفَرَسِيِّينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنَحْيَايَ وَنَحْيَايَ لِلرَّبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لِرَبِّكَ وَأُزِدُكَ أُمَّرًا مِنْ أَسْلَمِينَ اللَّهُمَّ مَكْتُوبَةٌ عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ بِاسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ». (سنن ابوداؤد: 2795، سنن ابن ماجہ: 3121.)

”اس سے معلوم ہوا کہ قربانی کرنے والا عن محمد وأمتہ کی جگہ اپنا نام یا جس کی طرف سے ذبح کر رہا ہے اس کا نام ذکر کرے گا۔“

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مینڈھا لایا جائے جو سینگ والا تھا جس کے پیر کالے تھے، آنکھیں کالی تھیں اور سینہ و پیٹ بھی کالا تھا، چنانچہ وہ لایا گیا تو آپ نے اس کی قربانی کی، جب وہ لایا گیا تو آپ نے فرمایا: عائشہ پھری لاو، اسے پتھر پر تیز کرو، حضرت عائشہ نے پھری تیز کر کے دی، آپ نے اس مینڈھے کو پکڑا، اسے لٹایا اور ذبح کرتے ہوئے یہ دعا پڑھی: «بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّتِهِ مُحَمَّدٍ». پھر قربانی کے طور پر اسے ذبح کر دیا۔ { صحیح مسلم: 1967، سنن ابوداؤد: 2792 }۔

مذکورہ بالا روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت، جن کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے ان کا نام لینا مسنون عمل ہے۔

هدا ما عنہم والحمد للہم بالصواب

[فتاویٰ شنائیہ](#)

جلد 2